

آدابِ عشقِ رسول ﷺ



کتب خانہ ظہری
گلشن اقبال کراچی پاکستان

عارف بالله حضرت قادر
مولانا شاہ حکیم محمد اختصار صاحب دامت برکاتہم

﴿ ضروری تفصیل ﴾

نام و عظ:	آدابِ عشقِ رسول ﷺ
نام واعظ:	عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد انخر صاحب
دام ظلالهم علینا الی مأة و عشرين سنة	
تاریخ وعظ:	۱۳۱۲ھ مطابق ۲۲ ستمبر ۱۹۹۱ء بروز التواریخ
وقت:	بعد نجمر
مقام:	مسجد اشرف واقع خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشنِ اقبال - کراچی
موضوع:	اصل عشقِ رسول کیا ہے؟
مرتب:	یکی از خدام حضرت والامد ظلہم العالی (سید عشرت جمیل میر صاحب)
نوت:	ص: ۳۲۳ اور ۳۲۴ پر ایک مضمون کی وضاحت کے لیے کچھ اضافہ کیا گیا ہے جو سابقہ ایڈیشن میں نہیں تھا۔
کمپوزنگ:	مفتی محمد عاصم صاحب، مقیم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشنِ اقبال، کراچی
اشاعتِ اول:	۱۳۲۹ھ مطابق ۲۹ ربیع الاول ۱۹۰۸ء
اشاعتِ ثانی:	ذوالقعدہ ۱۳۳۰ھ مطابق اکتوبر ۱۹۰۹ء
تعداد:	۱۲۰۰
ناشر:	کتب خانہ مظہری
	گلشنِ اقبال - ۲ کراچی، پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۸۲

فہرست

صفحہ	عنوان
۶	اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اتباع رسول ﷺ ہے
۷	محبت کی دو قسمیں
۸	عشق رسول ﷺ کی بنیاد اتباع رسول ﷺ ہے
۹	نا فرمانی رسول ﷺ کے ساتھ عشق رسول ﷺ کا دعویٰ باطل ہے
۹	گھر میں تصویر لگانے کی حرمت
۱۰	ٹخنے چھپانا رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی ہے
۱۱	ذکر رسول ﷺ کی برکات
۱۲	احد اور طائف میں حضور ﷺ کا خون مبارک کس لیے بہا؟
۱۳	گانے بجانے کی حرمت
۱۵	قصیدہ بردہ کے اشعار کی برکات
۱۶	چار شرائط سے سماع جائز ہے
۱۶	پہلی شرط
۱۶	دوسری شرط
۱۷	تیسرا شرط
۱۷	چوتھی شرط
۲۰	اتباع سنت پر اہل اللہ کی حرص

محبت کا انعام عظیم	۲۰
اہل اللہ کا اہتمام اتباع سنت	۲۱
ڈارِ حکیم منڈانے والوں سے حضور ﷺ کا اظہارِ نفرت	۲۲
بڑی مونچھیں رکھنے پر وعید	۲۳
صحابہ کا اعلیٰ مقام	۲۴
اہل اللہ کا طریق اصلاح	۲۵
ہر کام علماء کرام سے پوچھ کر کیجیے	۲۵
عشقِ رسول ﷺ کا حاصل	۲۷
آپ ﷺ کا رتبہ عظیم الشان ہے	۲۷
اتباع سنت کا نور	۲۸
خواب میں آپ ﷺ کی زیارت نعمتِ عظمی ہے	۲۹
چراغاں کرنے اور مخصوص دن منانے کی حقیقت	۳۰
نا فرمانی کرنا عشقِ رسول ﷺ کے خلاف ہے	۳۲
درو دشیریف کے فضائل	۳۷
اصلِ عشقِ رسول اتابعِ رسول ﷺ ہے	۳۸
ربنبع الاول کی حقیقت پانے والے	۳۱
رسالت کا اصل مقصد توحید ہے	۳۱
خدا کے سوا کسی کو علم غیب نہیں	۳۳
اولیاء اللہ سے براہ راست مانگنا شرک ہے	۳۴
بدعت کی خرافات	۳۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آدابِ عشقِ رسول ﷺ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبِّكُمُ اللّٰهُ

اللّٰهُ تَعَالٰى کی محبت کا راستہ اتباعِ رسول ﷺ ہے

اللّٰہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی! صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم

آپ اپنی امت سے فرمادیجیے کہ اگر تم اللّٰہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي﴾

اللّٰہ تعالیٰ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔

یعنی حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقشِ قدم ہوتا ہے اور پوری کائنات میں حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے اس لیے اللّٰہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللّٰہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی جس اللّٰہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن میں آیت نازل فرمारہے ہیں اور اپنے محبوب سے کہلوار ہے ہیں کہ فَاتَّبِعُوْنِي میری اتباع کرو یعنی جو بات حضور اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے نج جاؤ۔ جس شخص نے سرورِ عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک میں اور اللّٰہ تعالیٰ کے ارشادِ مبارک میں فرق کیا اس نے اللّٰہ تعالیٰ کے ارشادِ مبارک کی قدر نہ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَا أَتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

میرے رسول تم کو جواہکام عطا فرمائے ہیں اُن کو سر آنکھوں پر رکھلو۔

﴿وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرمائیں اُس سے رُک جاؤ۔

قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے اُن کو بھی کرو اور جن باتوں کا حکم ہمارے رسول دے اُن کو بھی کرو اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بھی رُکو اور جن چیزوں سے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی رُکو، خبردار! میرے احکام میں اور میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا کیونکہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ میرے ہی فرمان کے نقل اور میرے ہی فرمان کے سفیر ہیں، ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔

محبت کی دو قسمیں

معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود یعنی غیر مقبول جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے، بخاری شریف کی حدیث میں سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھتی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے اور اخلاص بھی اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے مگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم

کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول، نہ اس کے نفل قبول لہذا ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی محبت اتباعِ سنت کے ذریعہ ملتی ہے۔

عشقِ رسول کی بنیاد اتباعِ رسول ﷺ ہے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا تھے۔ سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرمائے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا جلسوں ایج جاؤ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھا ہے ﴿أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ﴾

یعنی خلافاء راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی تھے۔

﴿وَ كَانَ يَشْبِهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

اور اپنی صورت کے اعتبار سے سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت مشابہ تھے۔

تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سننا تو وہیں مسجد کے دروازہ پر جو توں میں بیٹھ گئے، سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا عبد اللہ بن مسعود اندر آ جاؤ۔ محمد شین لکھتے ہیں یہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوارانہیں ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود جو توں میں بیٹھ جائیں لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعود کی اتباع دیکھئے کہ انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا، جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں۔

مرضی تری ہر وقت جسے پیشِ نظر ہے
بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے
جو یہ کہے کہ اگر ہم ڈاڑھی رکھ لیں گے تو بیوی کی ناراضگی تو برداشت ہو جائے گی
مگر لوگ کیا کہیں گے تو سمجھ لو یہ اگر مگر کرنے والا عاشق نہیں ہے۔

نا فرمانی رسول کے ساتھِ عشقِ رسول کا دعویٰ باطل ہے
جب بخاری شریف میں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں کہ اے لوگو! ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کٹاؤ اور تمام زندگی
مبارک آپ نے ایک مشت ڈاڑھی رکھی، جملہ نبیوں نے رکھی، تمام صحابہ نے
رکھی، اتباعِ عشقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں دکھاؤ۔ آپ کے فرمان
عالیشان کے پر نچے اڑاتے ہو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے
ہو اور محبت اور عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو۔ عربی شاعر کہتا ہے۔

تَعْصِي الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّةَ

گھر میں تصویرِ لگانے کی حرمت

آہ! آج امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے فرمانِ عالیشان کے پر نچے اڑا کر محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تصویروں کو گھروں میں مت رکھو، جہاں تصویریں ہوتی
ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج امت کے گھر گھر میں تصویریں لگی
ہیں لیکن دعویٰ عشقِ رسول میں سب سے آگے ہیں، نافرمانی کے ساتھ یہ کون سی
عاشقی ہے؟ کیا محبت کا یہی حق ہے؟

اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیا شان تھی کہ ایک شخص
نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتہ کی دعوت دی، آپ ناشتہ کے لیے جب

ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں تصور تھی۔ فرمایا کہ عمر ایسے گھر میں ناشتہ نہیں کرے گا جس میں نافرمانی رسول ہو رہی ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالیشان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، ہم ایسے ناشتہ سے بازا آئے، یہ محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔

آج امت کو دیکھ کر دل گڑھتا ہے، وظیفے خوب پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک مرنے والے پر سورہ یسین کے کئی ختم ہوئے مگر اس کی روح نہیں نکلی، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے لے گئے تھے کہ تین دن ہو گئے ہیں مگر روح نہیں نکل رہی ہے حالانکہ ہزار دفعہ یسین شریف پڑھی جا چکی ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں لیاقت علی خان کی تصور لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ تصور کھتھتے ہوئے سورہ یسین شریف کا عمل کر رہے ہو، نافرمانی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوست سے رحمت کے فرشتے گھر میں کیسے آئیں گے؟ الہذا بھی تصور نکالو، چنانچہ جیسے ہی تصور ہٹائی گئی فوراً ہی روح نکل گئی۔ تو عشق رسول نام ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، سنت پر جان دے دو، چاہے دنیا کچھ ہی کہتی رہے اور آپ کا کتنا ہی مذاق اڑائے۔

ٹھنے چھپانا رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی ہے

بخاری شریف کی حدیث ہے:

﴿مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَادِ فِي النَّارِ﴾

جس کا ٹھنہ اوپر سے آنے والے لباس مثلاً شلوار، پا جامہ، لگنگی وغیرہ سے چھپا رہے گا اُتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا، اس حدیث کو

لے کر آج لوگ خوب ہوشیاریاں اور چالاکیاں دکھار ہے ہیں کہ صاحب میرا ٹھنخے تکبر کی وجہ سے نہیں ڈھک رہا ہے حالانکہ کبھی کسی صحابی نے ٹھنخے نہیں ڈھکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ لکلا ہوا تھا اس لیے آپ کا پاجامہ اٹک جاتا تھا لیکن آپ ہر وقت اُس کو اہتمام سے اوپ کرتے رہتے تھے اور وحی الٰہی سے سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تکبر سے پاک ہیں، آج کے زمانہ میں کس کو سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستثنی فرمایا؟ کس کے لیے وحی نازل ہوتی؟ الہذا جو لوگ ٹھنخے ڈھک رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ایک لاکھ حدیثیں بمع راویوں کے ناموں کے زبانی یاد تھیں وہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر ۶ میں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں:

﴿فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدْلُلُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأُسْبَالِ﴾

یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو ہر حال میں ٹھنخے چھپانا حرام ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث ہیں جنہیں ایک لاکھ حدیثیں مع اسناد کے زبانی یاد تھیں اور جنہوں نے بخاری شریف کی ۱۲ جلدیں میں شرح لکھی ہے ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا، آج تو چند کتابیں پڑھ لیں اور علامہ بن گنے، یہ لوگ علامہ نہیں ضللاً مہ ہیں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ **فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدْلُلُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأُسْبَالِ** تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ٹھنخے چھپانا حرام ہے۔

ذکر رسول ﷺ کی برکات

حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

نے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایک کتاب لکھی جس کا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ﷺ ہے۔ یہ کتاب عشقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف کتنا بڑا عاشقِ رسول ہے۔ اتنے بڑے عاشقِ رسول کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ بہر حال جب حضرت تھانوی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پر اس کتاب کو لکھ رہے تھے اُس زمانہ میں تھانہ بھون میں طاعون پھیلا ہوا تھا تو جس دن کتاب لکھتے قصبه میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی اور جس دن ناغہ ہو جاتا تھا اُس دن کئی اموات ہو جاتی تھیں۔ جب حضرت کو مسلسل یہ روایت پہنچی تو آپ روزانہ لکھنے لگے اور جب روزانہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان کو لکھنے لگے تو وہاں طاعون ختم ہو گیا لہذا درود شریف کی کثرت بلااؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اکسیر ہے اور ایک درود شریف پر دس درجے بلند ہوتے ہیں، دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔

اُحد اور طائف میں حضور ﷺ کا خون مبارک کس لیے بہا؟

بتائیے! اگر آپ کا خون مبارک طائف کے بازار میں نہ بہتا اور آپ کے دندان مبارک اُحد کے دامن میں شہید نہ ہوتے تو ہم تک کیسے اسلام پہنچتا؟ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُحد کے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون مبارک کو پوچھ رہے تھے اور فرمارہے تھے کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے۔ اس خونِ نبوت سے ہم کو اسلام ملا ہے ورنہ ہم کا لک پرشاد اور رام چندر ہوتے۔ بتائیے! سارے عالم میں اسلام کیسے پھیلا؟ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خونِ نبوت کے صدقہ میں اور صحابہ کے خون کے صدقہ میں آج ہم مسلمان ہیں۔

گانے بجانے کی حرمت

اُس پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہیں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں اور صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اب بھی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جب صحابہ نے اطلاع دی کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا۔ آہ! جس چیز کو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا ہوں آج امتحان دن اسی گانے بجانے میں غرق ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الْغِنَاءَ رُقْيَةُ النِّزَّنَا﴾

گانا سننے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔

اور آپ کا قول علامہ آلوی نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا ہے کہ خدا کی قسم یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ الْخَ گانے کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگ گانا بجانے والی لونڈیوں کو خریدتے تھے اور ان سے گانے بجانے سنوا کر لوگوں کامال لوٹتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مَنْ يَشْتَرِي کی آیت نازل فرمائی۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الْغِنَاءَ يُبْتَلِي الْبَيْقَاقَ كَمَا يُبْتَلِي الْمَاءُ الزَّرْعَ﴾

گانا بجانا ایسے بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی ہیکھتی کو اگاتا ہے۔

اب اس کو عبادت اور درجہ قرب الہی سمجھا جاتا ہے، افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ جب دین مکمل ہو گیا اور میدان عرفات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت الیوم آکھملت لکم دینکم نازل ہوئی تو جن نافرمانیوں سے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا اب اُسی نافرمانی کوامت کے بعض نادان لوگ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

جب میں طبیہ کالجِ إلہ آباد میں پڑھ رہا تھا تو ریل میں ایک جگہ جارہا تھا، وہاں قوالوں کی ایک جماعت بھی تھی، وہ ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی صاحب! فلاں کی قوالی ہے آپ ضرور آئیے گا، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قوالی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قوالی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طبلہ بجائے والا طبیح جب شعر کے آخر میں طبلہ پر ہاتھ مارتا ہے تو روح عرشِ اعظم تک چلی جاتی ہے، اللہ کا راستہ نماز، روزے والا تو مشکل راستہ ہے لیکن یہ طبلہ والا راستہ بہت جلد طے ہو جاتا ہے اور آپ طبلہ کی ایک تھاپ پر سید ہے عرشِ اعظم پر پہنچ جائیں گے۔ لاحول ولا قوۃ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور نعوذ باللہ یہ طبلہ سے عرش پر پہنچ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہمارے تمام اکابر نے سنے ہیں لیکن چار شرطوں کے ساتھ جو میں آگے بیان کروں گا لیکن حدود شریعت کو توڑ کر اشعار اور قوالی سننا حرام ہے۔ میں نے ایک زمانہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور دوسری طرف قوالی ہو رہی تھی، کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی، طبلے نج رہے تھے اور بیٹھے گردن ہلا رہے تھے۔ تحقیق کی تو قربی لوگوں نے بتایا کہ قوالوں نے اس وقت شراب پی ہوئی ہے، یہ رات بھر جاگ نہیں سکتے، نہ اتنی گردن ہلا سکتے ہیں، یہ سب نشے میں ہیں۔ بتائیے! عشاء کی نماز ضروری ہے یا شراب پیوں سے قوالی سننا ضروری ہے؟ بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قوالی ہو رہی ہے، پیر صاحب کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور نماز کا اہتمام نہیں۔

علامہ شامی ابن عابدین فقہہ شامی میں اور سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چار شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا

جاائز ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہوں یا سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نعمت شریف ہو تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طبلہ سارنگی نہ ہو، طبلہ سارنگی یعنی موسیقی پر حمد و نعمت پڑھنا بے ادبی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔

قصیدہ بردہ کے اشعار کی برکات

علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت میں اور آپ کی محبت میں اشعار کہے ہیں جو قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے ان سے فرمائش کی کہ اے بوصیری! تم نے میری محبت میں جواشعار کہے ہیں وہ مجھ کو سناؤ اور ان کے اشعار سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوم رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار عربی زبان میں ہیں۔ اشعار سننے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بوصیری! کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری برص کی بیماری اچھی ہو جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ان کے جسم پر اپنا دستِ مبارک پھیرا اور مین کی ایک مختلط چادر بطور تحفہ عطا فرمائی۔ جب بڑے چھوٹوں کو کوئی چیز دیں اس کا نام تحفہ ہے اور چھوٹا اپنے بڑوں کو دے اس کا نام ہدیہ ہے۔ جب صاحبِ قصیدہ بردہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو وہ مختلط یمنی چادران کے سرہانے رکھی ہوئی تھی اور ان کی برص کی بیماری بالکل اچھی ہو گئی تھی۔ ایک محدث نے اُسی وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ دروازہ کھلو، دروازہ کھولا تو فرمایا کہ تم نے جواشعار سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائے تھے ذرا مجھے بھی سنادو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں اشعار سنائے ہیں، آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس مجلس میں تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو اشعار نئے تھے اُس مجلس میں یہ فقیر بھی موجود تھا۔

چار شرائط سے سامع جائز ہے

سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار شرطوں سے سامع یعنی اشعار محبت و معرفت کے سننا جائز ہے۔

پہلی شرط

سامع اهل ہوی نہ باشد: سنن والانفس کا بندہ نہ ہو، عشقِ مجازی میں

بنتلانہ ہو ورنہ عشقیہ اشعار سے اس کو اپنے معشوق پادا کیں گے، لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ سنن والانفس کا غلام نہ ہو، قلب اس کا محالی مصطفیٰ ہو، غیر اللہ سے پاک ہو چکا ہوتا کہ محبت اور عشقِ الہی کی باتوں سے اس کا قلب اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، معشوقانِ مجازی کی طرف نہ جائے۔

دوسری شرط

مضمون خلافِ شرع نہ باشد: اشعار میں جو مضمون ہو وہ شریعت

کے خلاف نہ ہو، آسمان و زمین کے قلابے نہ ملا رہا ہو، کسی کو خدا کے برابر نہ کر رہا ہو، اولیاء اللہ کو با اختیار اور خدا کی حکومت میں شریک نہ سمجھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برطانیہ کے بادشاہ کی طرح نہ سمجھ رہا ہو کہ جہاں اصل حکومت وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبر کرتے ہیں اور بادشاہ اپنا خرچ پانی لے کر صرف دستخط پر گذارہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا مamt سمجھو، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔

خدا فرمًا چکا قرآن کے اندر

میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر

وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے

جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے

ہاں آپ وسیلے مانگ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اولیاء کرام کے وسیلے سے کہیں کہاے اللہ! تیرے جتنے اولیاء ہیں ان کے صدقہ اور طفیل میں میری دعا قبول فرمائیں، مگر مانگیں گے خدا ہی سے، وسیلے پکڑیں گے اللہ کے اولیاء سے لیکن مانگیں گے خدا سے۔

تیسرا شرط

آلہ لھو و لعب نہ باشد: یعنی سارگی طبلہ نہ ہو، ساز و موسیقی نہ ہو،

شریعت کے خلاف چیزیں نہ ہوں۔ میں بڑے درد سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی طبلہ بجا یا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی طبلہ بجا یا؟ سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرماتھے، کیا آپ کی حیات مبارکہ میں کبھی یہ کام ہوا؟ ایک صاحب نے مجھ سے بحث کی کہ قوالی سے دل میں عشق و تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، طبلہ اور سارگی کے ساتھ جب شعر ہوتا ہے تو دل میں عشقِ الہی میں جوش آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائی، صحابہ نے تابعین کو نہیں بتائی اور تابعین نے تابعین کو نہیں بتائی، یہ راز بس تمہارے سینے میں آ گیا، عشقِ الہی کی تڑپ کا راز بس آپ کو ملا، پھر اس نے توبہ کی۔ یہ بات کشمیر کے رہنے والے ایک صاحب کی ہے، ما شا اللہ یہ اور ان کا سارا خاندان بدعاں اور خلاف شرع باتوں سے تائب ہو گیا۔

چوتھی شرط

سمع کوڈک وزن نہ باشد: یعنی جو اشعار سن رہا ہے وہ بے ڈاڑھی

موچھ کا لڑکا نہ ہو اور عورت نہ ہو، عورتوں اور بے ڈاڑھی موچھ کے لڑکوں سے نعمت شریف سننا جائز نہیں ہے۔ عورت اگر قرآن شریف بھی سنائے تو عورت

سے قرآن شریف بھی سننا جائز نہیں ہے۔ نبی کی بیبیوں کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا:

﴿لَا تَخْضُعْنَ بِالْقَوْلِ﴾

اے نبی کی بیبیو! اگر تم کو صحابہ سے بات کرنا پڑے تو اپنی آوازوں کی طبعی نرمی کے خلاف آواز بھاری کر کے بات کرو۔

﴿فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾

ورنہ جن کے دل میں مرض ہے ان میں طمع پیدا ہوگی۔

اسی اختیاط کی وجہ سے صحابہ کو حکم ہو رہا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْتَلُوْاهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

اے اصحاب رسول! جب تم نبی کی بیبیوں سے کسی بات کا سوال کرو تو پردازے کے پیچھے سے کرو۔

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلی اچانک نظر تو معاف ہے لیکن خبردار! کسی کی ماں، بہن، بیٹی پر دوسرا نظر مت ڈالنا یہ حرام ہے۔ کیا آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولانا! ہماری نظر صاف ہے، دل پاک ہے، ارے! تو کیا نعوذ بالله حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر غیر صاف اور غیر پاک تھی؟ یہ سب نفس کی چال ہے کہ خود کو پاک صاف کہہ کر بدنظری کرتا ہے۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ حمد و نعمت کے یاد اور فائدہ اشعار سننا عبادت ہے، آپ رات بھرا شعار سننے لیکن حدودِ شریعت نہ ٹوٹیں۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمائش کی کہ فلاں حکیمانہ شعر کہتا ہے، اُس کا کوئی شعر تم کو یاد ہو تو سناؤ؟ انہوں نے ایک شعر سنادیا، آپ نے فرمایا اور سناؤ پھر اور سنایا، صحابی کہتے ہیں حتیٰ انشدُث مِائَةً

بیتِ میں نے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوا شعار سنائے اور آپ کو معلوم ہے کہ چوبیس صحابہ شاعر تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نعمت شریف کی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی محبت میں دو شعر کہے ہیں اور کیسے پیارے شعر ہیں۔

لَنَا شَمْسٌ وَ لِلْأَفَاقِ شَمْسٌ

وَ شَمْسِيُّ خَيْرٍ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ

ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے اور میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کہ ان کے صدقے میں سورج اور چاند پیدا ہوئے۔

فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ

وَ شَمْسِيُّ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ

آسمان کا سورج نمازِ فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کے بعد مسکراتے ہوئے گھر شریف لا یا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے لہذا جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں اور مسکراتے ہوئے داخل ہوں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تشیح لیے، آنکھ بند کیے ہوئے، منه بھلائے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت بازیزید بسطامی سے کم نہیں ہیں، مسکرانا کیا جانیں؟ دوستوں میں تو نہیں بولیں گے لیکن یہوی بیچاری بات کرنے کو ترسی ہے، وہاں جا کے بالکل سنجیدہ اور عرشِ اعظم پر رہنے والے بن گئے حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس وقت آنکھ بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسکراتے ہوئے اپنی یہوی اور گھر والوں کو السلام علیکم کہو۔ بعض لوگ اس لیے غصہ میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نہ سو دیں گے، مسکرا دیں گے تو یہوی کے اوپر ہمارا رب نہیں رہے گا، لہذا وہ منہ پھلا کر، آنکھیں سرخ کیے ہوئے فرعون کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور

سنٰت کے خلاف زندگی ہے، سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنٰت پر عمل کرو۔

اتباعِ سنٰت پر اہل اللہ کی حرص

جب کسریٰ کے دربار میں کھانے کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا، وہ اسے اٹھا کر کھانے کے لیے صاف کرنے لگے تو ایک صاحب نے اشارہ سے منع کیا کہ ایسا نہ کریں ورنہ وہ کہیں گے کہ مسلمان قلاش اور سات پشت کے فقیر ہیں، اس میں اسلام کی توجیہ ہے تو حضرت حذیفہ نے کیسا پیارا جواب دیا:

﴿أَتُرُكُ سُنّةَ رَسُولِ اللّٰهِ لَهُوَ لٰءِ الْحُمَّقَاءِ﴾

کیا میں ان نادانوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنٰت کو چھوڑ دوں؟

اسی طرح آج کل لوگ پیالہ چاٹنے کی سنٰت پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں۔ علامہ شامی نے حدیث نقل کی ہے کہ جب پیالہ چاٹا جاتا ہے تو پیالہ دعا دیتا ہے:

﴿أَعْتَقَكَ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أَعْتَقْنَيْ مِنَ الشَّيْطَنِ﴾

خدا تمھ کو جہنم سے بچائے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا۔

کیونکہ اگر کھانے کے بعد پیالہ کو نہ چاٹا جائے تو اس میں لگا ہوا کھانا شیطان صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ! سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی کیا نعمت ہے!

محبت کا انعام عظیم

ایک صحابی سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر پلکیں جھپکائے گئے۔ باندھ کر دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ آج تم اتنی محبت سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ آئنا چیز جھپک بھی نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو جب دل ترپتا ہے تو آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں

لیکن جنت میں آپ کا درجہ بہت اونچا ہو گا وہاں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا:

﴿الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ﴾

جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔

دیکھا آپ نے محبت کیسی نعمت ہے؟ محبت والے کی دور کعات غیر محبت والے کی لاکھر کعات سے افضل ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ اعلان فرمائیے فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرو یُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ الْمُطَّهِّرُ تُمَكُّنْ حُبُوبَ كَرَلَگَا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا وہی ہے جو قبیع سنت ہے۔

اہل اللہ کا اہتمام اتباع سنت

میں نے الہ آباد کے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو دیکھا جو حضرت شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید بدر علی شاہ کے خلیفہ ہیں، ان کو دیکھا کہ ان کا کرتہ اتارنے والے خادم نے داہنے ہاتھ کی طرف سے کرتہ اتار دیا حالانکہ سنت یہ ہے کہ کرتہ پہنٹے وقت پہلے داہنے ہاتھ میں پہنے اور اتارتے وقت پہلے باٹیں ہاتھ سے اتارے۔ جوتا ہو یا گرتا ہو یا پا چمامہ ہو داہنی طرف سے پہنوا اور باٹیں طرف سے اتارو۔ میں اُس وقت موجود تھا، کراچی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حضرت نے خادم کو ڈانٹ کر فرمایا کہ تم کیسے یوقوف ہو؟ تم کو اس سنت کا علم نہیں، تم نے میرا گرتا سنت کے خلاف اُتار دیا، اب دوبارہ پہناو، دوبارہ داہنے ہاتھ میں پہنا اور فرمایا کہ اب باٹیں ہاتھ کی طرف سے اتارو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت مولانا شاہ ابرا الحنف صاحب ہردوئی

کا موزہ اُتارا تو پہلے دامنی طرف سے اتار دیا، فرمایا پھر پہناد اور پہلے بائیں طرف سے اُتارو۔ موزہ، جوتا، لباس پہننے وقت سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل سے ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے مثلاً جوتا پہننے وقت خیال آئے گا کہ سر وِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکمِ عالی پر عمل ہو رہا ہے کہ:

﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدُّا بِالْيُمْنِي﴾

جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دامنی پیر میں پہنے۔

﴿وَ إِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدُّا بِالشَّمَالِ﴾

اور جب اُتارے تو پہلے بائیں طرف سے اتارے۔

اگر آپ اس سنت پر عمل کریں گے تو دن بھر میں جتنی بار جوتا پہنیں گے اور اُتاریں گے تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد تازہ نہیں ہو گی؟ دل یقیناً مسرور ہو گا کہ ہم سر وِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکمِ مبارک پر عمل کر رہے ہیں، محبت اسی کا نام ہے، محبت عمل کا نام ہے، خالی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں بڑا محبت کرنے والا ہوں لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو نفس و شیطان غالب آجاتے ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی غالب ہو جاتی ہے، بیوی کا خوف، دفتر والوں کا خوف آجاتا ہے جس سے ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

ڈاڑھی منڈانے والوں سے حضور ﷺ کا اظہارِ نفرت

امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مشت ڈاڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے یعنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور سامنے سے لہذا اگر قیامت کے دن سر وِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دریافت فرمائیں کہ اے میرے امی! تو نے میرے چہرے میں کیا عیب پایا کہ میری جیسی شکل نہیں بنائی تو بتائیں ہم لوگ کیا جواب

دیں گے؟ جبکہ زندگی مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈاڑھی منڈی شکلوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ ایران کے دو سفیر آپ کے سامنے حاضر ہوئے جن کی ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی اور موچھیں بڑی بڑی تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نفرت سے پھیر لیا۔ پس اگر قیامت کے دن ایسی شکل بنانے پر ہم سے بھی نفرت سے چہرہ مبارک پھیر لیا تو شفاعت کے امیدوارو! کہاں جاؤ گے؟ کس کو خوش کر رہے ہو، یہیوں کو خوش کر رہے ہو، اپنا نفس خوش کر رہے ہو؟ یہ گال تمہاری ملکیت نہیں ہیں، یہ گال اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یاد رکھو! بندہ کی ہر چیز بندہ ہے، اگر ہم بندہ ہیں تو سر سے پیر تک بندہ ہیں۔ ہمارا ہر جز خدا کا غلام ہے، یہ گال بھی خدا کے غلام ہیں، اختر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈاڑھی رکھ لو، اختر کوئی چیز نہیں ہے، ایک بھنگی بھی اگر کمشنز کے احکام کا ٹین بجا کر اعلان کرتا ہے تو آپ کمشنز کے احکام سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، یہیں دیکھتے کہ اعلان کرنے والا جمدار ہے، اگر اختر کو انتہائی حقیر سمجھتے ہو، ہمیں منظور ہے لیکن سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈاڑھی رکھ لوتا کہ قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ۔

ترے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں

حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

اور اگر ڈاڑھی رکھنے پر کوئی آپ پر پہنچے تو یہ شعر پڑھ دیا کرو۔

اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو

تم کو بھی محبت کہیں مجھ سانہ بنا دے

بڑی موچھیں رکھنے پر وعید

ایسے ہی آج دیکھتا ہوں کہ لوگ لمبی لمبی موچھیں رکھے ہوئے ہیں،

دیکھوا و جز المسالک شرح مؤطاماً مالک، حدیث کی بڑی مستند کتاب

ہے جو چودہ جلدیوں میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو بڑھایا:

﴿ لَمْ يَنْلُ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَرِدْ عَلَى حَوْضِي وَيَعْثُثُ اللَّهُ الْمُنْكَرَ وَالنَّكِيرَ فِي غَضَبٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنْ لَمْ يَتُبْ ﴾

میری شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا اور حوضِ کوثر پر نہیں آنے پائے گا اور سوال جواب کے لیے قبر میں منکرنکیر کو غصے میں بھیجا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے۔

صحابہ کا اعلیٰ مقام

بس دوستو! یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس سے دین پھیلاتے ہیں اس کو شاگرد بھی اعلیٰ دیتے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کو اعلیٰ شاگرد دیتے ہیں۔ آپ بتائیے! کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی مشن پر بھیجے، کسی مقصد کے لیے بھیجے تو کیا نااہلوں کو اس کا ساٹھی بنائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں اس لیے حق تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑے لاکن اور سب سے بڑے عاشق شاگرد عطا فرمائے اور صحابہ کو سروردِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے منتخب فرمایا جن سے اسلام کو پھیلانا تھا۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آگیا جو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے

چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی
پسلی پھرک گئی نظرِ انتخاب کی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گئے۔ ان کے
لیے تو یہ شعر کہا جا سکتا ہے۔

کسی کے دردِ محبت نے عمر بھر کے لیے
خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے

کعبہ کے سامنے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک اٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ و عمر میں سے ایک عمر ہمیں عطا کر دے، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب اور جبریل امین اور صدیق اکبر آمین کہہ رہے تھے، ان میں سے عمر ابن خطاب قبول ہو گئے۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگے گئے۔ کبھی کبھی اولیاء اللہ بھی اپنے لیے کسی کو مانگ لیتے ہیں۔

اہل اللہ کا طریقِ اصلاح

میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جونا فرمائی کر کے خداۓ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اس کی مثال کٹی ہوئی پنگ کی سی ہے، جب اللہ سے کٹ گیا تو جو چاہے اس کو لوٹ لے، نوجہ کھسوٹ لے، کٹی ہوئی پنگ کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایک پروفیسر جو یونیورسٹی میں میں الاقوامی تعلقات پڑھاتے تھے، میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں بھی کٹی پنگ ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ والوٹ لے۔ ظالم نے کیا بات کہی! اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے لوٹا جائے گا کیونکہ میں کٹی پنگ ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ محلہ کے لڑکے مجھے لوٹیں مجھے کوئی اللہ والوٹ لے۔ میں نے کہا اللہ والے ایسے نہیں لوٹتے، لٹوانے کے لیے خانقاہوں میں جانا پڑتا ہے، وہ لوٹنے کے لیے دروازے دروازے نہیں پھرتے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی کبھی دعوتِ الی اللہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں اور لوٹنے سے مراد نہیں ہے کہ وہ تمہارا مال لوٹتے ہیں بلکہ اپنی اصلاحی تدابیر سے تمہارے اخلاقی رذیلہ کو لوٹ کر تمہیں اخلاقِ حمیدہ سے مزین فرمادیتے ہیں۔

ہر کام علماء کرام سے پوچھ کر کیجیے

الہذا آپ جو کام بھی کیجئے علماء سے پوچھئے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے ۲۳ برس بعد تک زندگی عطا فرمائی، تیرہ سال مکہ شریف میں اور دس سال مدینہ شریف میں تو اس عرصہ میں آپ نے کیا کیا خوشیاں منایا ہیں، کتنے لوگوں کا یومِ ولادت منایا، کتنے لوگوں کا یومِ وفات منایا کتنے نبیوں کا ڈے منایا یعنی موت کا یا پیدائش کا دن اور اس کو علماء سے پوچھتے، ہم نہیں بتاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی اسی لیے درود شریف میں بھی اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ كَمَّ بَعْدَ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ہے یا نہیں؟ اور کسی نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ یا اللہ! مکہ شریف میں ایک پیغمبر پیدا فرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ کی بعثت ہوئی لہذا کسی طبقہ کا عالم، کسی جماعت کا عالم یہ ثابت کردے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی پیغمبر کا یا کسی شخص کا ڈے منایا ہو؟ اس لیے کہتا ہوں کہ علماء سے پوچھ لواور پوچھ پوچھ کر عمل کرو، ہماری بات نہ مانو تو تحقیق کرلو۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ملنے کے بعد ڈھائی سال زندگی پائی۔ پوچھو کہ انہوں نے کون سا دن منایا؟ یہ چیزیں کب سے شروع ہوئیں؟ صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیوں میں کہیں یہ خرافات آپ کو نہیں ملیں گی۔ ارے! ہماری ہر سانس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی حیاتِ طیبہ پر فدا ہوئی چاہیے، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ ایک ظالم شاعر کا شعر یاد آگیا، وہ حیدر آباد دکن کا تھا، اس کا نام شجیع تھا، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، وہ اپنی بیوی کو لے کر روزانہ ایک باغ میں ٹھہلنے جاتا تھا، ایک دن اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں یعنی اپنے میکے چل گئی، میکے کے معنی ہیں مائی کے یعنی ماں کے یہاں۔ تو اس دن جب بیوی اس کے ساتھ نہ تھی تو وہ جہاں سے گذر رہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

شیعج آج تہا چن کو گئے تھے بہت ان کے نقش قدم یاد آئے **عشق رسول ﷺ کا حاصل**

عشقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حاصل تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر زندگی کی ہر سانس فدا کرتے، صبح و شام، کوئی دن ناغہ نہ کرتے، کثرت سے درود شریف پڑھتے اور کثرت سے آپ کی سنتوں کا مذاکرہ کرتے، اگر ہم لوگ ایک ایک سنت زندہ کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوتی۔ اگر آج امت کے سب مردو اڑھیاں رکھ لیں، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگیں، اپنے ٹخنے کھول لیں اور جتنی سنتیں ہیں ان سب پر عمل کریں، گانا بجا نا چھوڑ دیں تو بتاؤ! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوگی۔ وہ شخص ظالم ہے جو ایک سینڈ کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو بھول جائے آپ کی محبت جزو ایمان ہے لہذا جو شخص آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے اس کا کلمہ درست نہیں ہے اگرچہ راتِ دن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے، اسے نجات نہیں ملے گی جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا یعنی اگر آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

آپ ﷺ کا عظیم الشان رُتبہ

علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سو رہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب

ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے ڈُرُث قبر النبی ﷺ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی تو ایسا کہنا مکروہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈُرُث النبی ﷺ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ آپ بحیاة طیبہ خاص حیات سے مشرف ہیں اور روضۃ مبارک پر حاضر ہو کر جو صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے صلوٰۃ وسلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے زمین کا وہ ٹکڑا عرشِ اعظم سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزوِ ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہی قبول نہیں۔ ایک شاعر بڑا عاشق تھا، وہ مدینہ شریف جا رہا تھا، جب دور سے اس کو روضۃ مبارک نظر آیا تو اس نے دو شعر کہے۔

ڈھونڈتی تھی گنبدِ خضری کو تو
دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار
ہوشیار اے جانِ مضطرب ہوشیار
آگیا شاہِ مدینہ ﷺ کا دیار

اتباعِ سنت کا نور

دوستو! میں نے آیت اس لیے تلاوت کی کہ جو کام کرو سنت و شریعت کے مطابق کرو اور گانا بجانا طبلہ سارگی یہ چیزیں خلافِ سنت ہیں، خلافِ شریعت ہیں، سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو! میں باجا اور گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تو جس چیز کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے آج امت اس چیز کو زندہ کر کے اپنے اوپر لعنت کیوں برسا

رہی ہے؟ ایسی امت کیا فلاح پائے گی؟ پس سروِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات مبارک ہیں، جتنی سنتیں ہیں، ان سب کو سر آنکھوں پر رکھو، ان پر عمل کرو پھر دیکھو کہ کتنا نور پیدا ہوتا ہے، سورج اور چاند کیا جانیں اُس روشنی کو جو روشنی سنت میں ہے۔

از لپ پارم شکر را چه خبر
وز رخش شمس و قمر را چه خبر

مٹھائی کیا جانے اللہ کے نام کی مٹھاس کو؟ مٹھائی اور شکر مخلوق ہے، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود اور قدیم ہے، خالق شکر ہے، خالق شکر کو شکر کیا جانے؟ خالق شکر غیر محدود مٹھاس رکھتا ہے اور شکر کی مٹھاس محدود ہے اور اگر شوگر بڑھ جائے تو شکر کھا بھی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہر بیماری کی شفاء ہے، سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہر بیماری کی شفاء ہے، اس کی برکت سے حسن خاتمه بھی ملتا ہے۔

خواب میں آپ ﷺ کی زیارت نعمتِ عظمیٰ ہے

علماء نے لکھا ہے کہ جس نے سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفعہ خواب میں دیکھ لیا اس کا خاتمه ایمان پر ہوگا۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ مرتبہ سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میرے شیخ نے خود فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشمندی مبارک کے لال لال ڈورے بھی نظر آئے، اتنا واضح خواب تھا، اور انہوں نے خواب ہی میں پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا تو سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عبدالغنی! تم نے ہم کو خوب

دیکھ لیا۔ ایسا پیارا شیخ اللہ نے اختر کو نصیب فرمایا۔

ایک مرتبہ حضرت کسی پر غصہ ہو گئے، بعد میں ایک میل کے فاصلے پر اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگی، حالانکہ وہ کوئی عالم بھی نہیں تھا، ہل جوتے والا جاہل آدمی تھا لیکن حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور غیر عالم کی تخصیص نہیں ہوگی، وہاں تو سب برابر ہوں گے، حضرت نے اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہم سے ظلم ہو گیا، تم ہمارے شاگرد نہیں ہو، مرید نہیں ہو تو میں نے تمہیں کیوں ڈانٹ دیا؟ میں اس غصہ کی وجہ سے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس نے بہت کہا کہ حضرت آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں لیکن حضرت نے فرمایا کہ زبان سے کہو کہ میں نے معاف کر دیا، جب اس نے کہا میں نے معاف کر دیا تب آپ آئے، اسی رات سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت نے خواب میں دیکھا کہ ایک کشتی میں سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضرِ خدمت ہیں اور پچھے کچھ فاصلے پر ایک اور کشتی ہے، اس میں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا اے علی! عبدالغنی کی کشتی میری کشتی سے جوڑ دو، جب کشتی جوڑی گئی تو کھٹ کی آواز آئی، حضرت فرماتے تھے کہ اس کھٹ کی آواز کا اب تک مزہ آتا ہے۔ حضرت شاعر نہیں تھے، دوہی شعر زندگی میں کہے جس کا ایک شعر یہ ہے۔

مضطربِ دل کی تسلی کے لیے

حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو

چراغاں کرنے اور مخصوص دن منانے کی حقیقت

آج اس مبارک مہینہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کیونکہ اس

زمانہ میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں ہوتے مثلاً بعض مسجدوں میں بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہوتی ہے، کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں اور کہیں جلوس نکل رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر حقائق کو نہ پیش کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کریں گے کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے جبھی تو انہوں نے روشنی نہیں کی، چراغاں نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، قولی نہیں کی اور اپنے لوگ جو کم علم کے ہیں انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے، شیطان و سوسد ڈال سکتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت تہتر (۳۷) فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سافرقہ ہو گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيُّ جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول ہے اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے والے نجات پائیں گے۔ آج کل اخبار میں آتا ہے کہ کہیں فلاں کی وفات کا جلسہ ہے، کہیں فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے میں کیا حرج ہے؟ سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں جس میں ۱۳ برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گذارے اور دس برس مدینہ شریف میں گذارے تو کیا اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات کا دن منایا؟ کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا؟ آپ کی بیبیوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، کیا آپ نے اگلے سال

وہ دن منایا کہ پچھلے سال اس دن کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا لہذا آج کے دن
پچھد گیک و گیک پکوا کر ثواب پہنچا دوتا کہ ان کی یاد تازہ ہو جائے؟ اس کو آج کل
کہتے ہیں ڈے منانا۔ اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو منہ سے ڈے
ڈے نکلتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے معدے میں غیر اسلامی، غیر شرعی،
سنن کے خلاف اتنی زیادہ سمیں گھس گئی ہیں کہ ان کے منہ سے ڈے نکلے
رہا ہے اس کو ثواب سے کیا تعلق؟ یہ چیز یورپ سے آئی ہے، کسی کی پیدائش کا،
کسی کی غمی کا دن منانا یورپ والوں نے یہ کام شروع کیا لہذا آپ لوگوں کو
سمجنے کے لیے اور اپنے قلب کو اور آپ کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے
آج مجھے اس مسئلہ کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے تاکہ آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں اور کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے
کہ صاحب ان کی مسجد میں چراغاں نہیں ہوا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں لہذا میں آپ حضرات سے
سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھا نہیں؟ ہمارا آپ کا
تو زبانی عشق ہے لیکن صحابہ نے تو جان قربان کر دی، خون بھا دیا، أحد کے
دامن میں ایک ہی دن میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور سرور عالم صلی تعالیٰ علیہ وسلم
نے سب کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ کیا کامیاب زندگی تھی، ایک تو شہادت کا درجہ
بلند پھر نمازِ جنازہ پڑھنے والا بھی کیسا! تمام نبیوں کا سردار، وجہ وجود کائنات۔

ان کے کوچ سے لے چل جنازہ میرا
جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے
بے خودی چاہیے بندگی کے لیے
واقعی! جب تک اللہ کی محبت میں بے خودی نہیں ہوتی بندگی میں روح
نہیں آتی یہی محبت سیکھنے کے لیے خانقاہوں کو قائم کیا گیا ہے ورنہ کتب بینی تو آپ

اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کتابوں سے محبت نہیں ملتی محبت تو اہل محبت کی صحبت سے ملتی ہے۔ لہذا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھانی سال خلافت کی، کیا تاریخ میں کوئی اس کا ثبوت دے سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربع الاول میں مسجد نبوی میں روغن زیتون سے چراغاں کیا ہو؟ یہاں تو آج کل بلب ہیں، اُس زمانہ میں تو بلب نہیں تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیتون کے تیل سے بہت سے چراغ تو جلا سکتے تھے لیکن کوئی چراغاں نہیں ہوا۔ کیا ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنی جان فدا کی، جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے اور وہ کون سے دن کی عبادت تھی؟ جہاد کے دن جبکہ صحابہ نے کہا کہ ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ابھی جہاد کے لیے ہمیں شرح صدر نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے کیونکہ جب غارِ ثور میں یہ آیت نازل ہوئی لا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا تَوَسَّلُ اللَّهُ مَعْلُومٌ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ غُمگین نہ ہو اے ابو بکر صدیق! اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اس وقت میں تھا اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا لہذا خدا کامیرے ساتھ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ فرمाकر تلوارِ گردن میں لٹکائی اور تنہا جہاد کے لیے نکل گئے فَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ وَخَرَجَ وَحْدَهُ یہ دیکھ کر تمام صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے تو اتنا عشق کرنے والا جن کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی وہ ایک دن کی عبادت جب انہوں نے مانعینِ زکوٰۃ سے جہاد کیا عمر کی زندگی کے تمام دنوں کی عبادات سے افضل ہے اور ایک اس رات کی عبادت جب انہوں

نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی میری تمام راتوں کی عبادت سے افضل ہے، اتنا بڑا عاشق جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلٹرے میں سارے پیغمبروں کی امت کے صحابہ کا اور میرے صحابہ کا ایمان رکھا جائے اور دوسرا پلٹرے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو ان کا پلٹر اجھک جائے گا یعنی اس امت کے صحابہ اور پچھلی تمام امتوں کے صحابہ کے ایمان سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے تو اس سب سے بڑے عاشق رسول نے ڈھائی سال حکومت کی اور ڈھائی سال کے اندر دوبار ربیع الاول آیا تھا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چراغاں نہیں کیا۔ اس زمانہ میں زیتون کا تیل تو تھا، دس بیس چراغ تو جلا ہی سکتے تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کمی تھی، بہت مالدار تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، بہت مالدار تھے، ان مالدار صحابہ نے بھی کوئی چراغ نہیں جلا�ا، وہ اپنے دل میں چراغ جلاتے تھے، صحابہ اپنے دلوں میں اتباع سنت کے نور سے چراغ جلاتے تھے۔

نا فرمانی کرنا عشق رسول ﷺ کے خلاف ہے

آج ڈاڑھیاں موئڈی جاری ہیں، مونچیں بڑی بڑی رکھی ہیں، طبلے سارنگیاں نج رہی ہیں، جماعت سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور یہ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، یہ عشق رسول ہے؟

تَعْصِيُ الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ
 هَذَا الْعَمْرِيُّ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ
 لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْنَةَ
 فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو ظالمو! اور عشقِ رسول کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارا عشق سچا ہوتا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے کیونکہ عاشق تو اپنے محبوب کا فرماں بردار ہوتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ جماعت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور جلوس میں سب آدمی گھسے چلے جا رہے ہیں، کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ جلوس نکالتے؟ آج اخبارات میں ہے کہ خوشی مناؤ، ارے تمہاری خوشی جب قبول ہو گی جب صحابہ کے طریقے پر ہو گی، ان کے طریقہ کے خلاف تمہاری خوشی قبول نہیں ہو سکتی، یہ دیکھو کہ حضراتِ صحابہ نے کیسے خوشی منائی؟ ان سے اللہ راضی ہو گیا رضی اللہ عنہُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ ان سے راضی تو ان کے اعمال سے بھی راضی الہذا جیسے صحابہ کرام ایک سنت پر جان دیتے تھے ہم بھی جان دینا سیکھیں۔ دیکھو! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں ناشتہ نہیں کیا جس گھر میں تصویر تھی اور آج عاشقِ رسول بنے ہوئے ہیں اور ان کا سارا گھر تصویروں سے بھرا ہوا ہے، گانے بجانے رات دن ہو رہے ہیں، ریڈ یو، ٹی وی، وی سی آر چل رہے ہیں، بس بارہ ربع الاول میں چراغاں کر لیا اور جلوس نکال لیا تو بہت بڑے عاشقِ رسول ہو گئے۔ ارے تمہارا عشقِ رسول جب قبول ہوتا جب تم سنت کے مطابق موچھیں کاٹ دیتے اور ڈاڑھیاں بڑھا لیتے اور پانچوں وقت کی جماعت سے نماز ادا کرتے۔ ہمیں ثابت کر دو کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے ربيع الاول منایا، چراغاں کیا بلکہ کسی صحابی سے ثابت کر دو کہ انہوں نے ربيع الاول منایا ہو؟ عاشقِ رسول وہ ہیں جو سنت پر چلتے ہیں، سبحان اللہ! ہمارا ربيع الاول تمام سال ہے، ہمارا میلاد شریف ہماری زندگی کی ہر سانس ہے، ہماری ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ تھوڑی کہ سال میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پڑھ لیا اور سارے سال نافرمانی کرتے رہے۔ جو بھی اتباع سنت کرتا ہے اس کا سارا سال ربیع الاول ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلیں اور خدا کے غصب اور قہر کے اعمال سے بچیں، یہ اصلی مولود شریف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حق وہ ادا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پر اپنی جان فدا کر دے، میرا شعر ہے۔

وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا
اس حاصلِ حیات پہ اختر فدا ہوا

جو سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو یہ ہے اصلی مولود شریف۔ ایک ایک سنت کو سیکھئے اور اس پر عمل کیجیے، یہ ہے ربیع الاول، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے، سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ سال میں ایک دفعہ ہندوؤں کی دیوالی کی طرح مسجدوں میں چراغاں کرو، جلوس اور ریلیاں نکال کر گانے بجانے کرو اور گھروں میں وی سی آر، سینما، ٹی وی چلاو۔ آہ! گانا بجانا گھر سے نہ نکلا اور دعویٰ ہے عشقِ رسول کا۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور آج سب کے گھر میں خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں، ٹھیلے والے بھی گانے بجا رہے ہیں، سبزی بیچ رہا ہے اور گانے بجانے چل رہے ہیں۔ بتاؤ! اس امت کا کیا حال ہے؟ سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو عملی طور پر اختیار کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رات دن درود شریف پڑھیں، یہ ہے اصلی چیز۔

درود شریف کے فضائل

ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں، دس گناہ معاف ہوتے ہیں، دس درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہُمَّ صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَّعَلَیْ الْمُحَمَّدِ تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی منہ سے نکلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی منہ سے نکلا تو بندہ دونوں کریم کے درمیان میں ہو جاتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ میں لڑو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا اللڑا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا اللڑو

دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے

ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے

میرے مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا مزہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کا مزہ، درود شریف میں دونوں مزے ہیں اور بندہ دو کریم کے درمیان ہو جاتا ہے۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم

صد شکر کہ ما ایم میانِ دو کریم

اے ہمارے رب! آپ کریم ہیں اور آپ کا نبی بھی کریم ہے، صد شکر کہ درود شریف کی برکت سے ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں تو جس کی کشتنی ایسے دو کریم کے درمیان میں چل رہی ہو، جس کشتنی کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو وہ کشتنی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ درود شریف میں دو مزے ہیں، کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں ہے کہ بیک وقت

دونوں لڑو ملیں یعنی اللہ تعالیٰ کا نامِ پاک بھی زبان پر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک منہ سے نکلے۔ درود شریف پڑھتے وقت تصویر کریں کہ میں روضۃ مبارک پر حاضر ہوں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے اس کے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں، یہ ہے درود شریف پڑھنے کا طریقہ۔

اصل عشقِ رسول اتباعِ رسول ﷺ ہے

آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں جن کی ہر سانس سنت پر فدا ہو رہی ہے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے خادم نے سنت کے خلاف حضرت کا گرتا اُتار دیا، مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھے دوبارہ کرتا دوبارہ پہناو، کیونکہ تم نے سنت کے خلاف گرتا اُتارا ہے، پہلے سیدھے ہاتھ میں پہناو پھر بائیں ہاتھ میں اور اگر اتارو تو پہلے بائیں ہاتھ سے پھر دائیں ہاتھ سے، یہ ہے عشقِ سنت۔ آہ! یہ کون سا عشق ہے کہ عربی لباس پہن کر اور گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لیے چلے آرہے ہیں۔ نعوذ بالله جنگ بدر والانقشہ پیش کر رہے ہیں، یہ عشقِ سنت ہے یا سنت کا مذاق اُڑانا ہے؟ ساری سنتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں تو دوستو! ان سنتوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنت کے مطابق عمل کیجیے مثلاً بخاری شریف کی روایت ہے کہ جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ جب جوتا پہننے تو دائیں پیر میں پہننے اور جب اُتارے تو بائیں پیر سے اُتارے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت گانا بجانا نہیں ہے۔ آج امت گانا سننے کے لیے بے چین ہے، کہتے ہیں جب تک گانا نہیں سننے ہیں مزہ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور آپ گانے بجانے کی آواز سن

کر دنوں انگلیوں سے کانوں کو بند کر لیتے تھے تاکہ آواز نہ سنائی دے۔ جو دن رات گانے سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عاشقِ رسول ہوں اور ربِ بیتِ الاول کے جلوس میں شریک ہوتا ہے جہاں زورو شور سے گانے بجتے ہیں وہ کس منہ سے عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصویروں کو بھی منع فرمایا ہے کہ جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن عشقِ رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے گھروں کو دیکھو تو عورتوں کی تصویروں سے تمام گھر بھرے ہوئے ہیں۔ دوستو! اصل ربِ بیتِ الاول اس کا ہے جو رات دن ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے، سال میں ایک مہینہ کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، بارہ ربِ بیتِ الاول کے لیے نہیں، جس کی ہر سانس بارہ ربِ بیتِ الاول ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے مناؤں، شادی کیسے ہو؟ غمی کیسے ہو؟ ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے تو جس کی ہر سانس سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، اس کی ہر سانس بارہ ربِ بیتِ الاول ہے اور بارہ ربِ بیتِ الاول کو جلوس اور چراغاں کرنا اگر اچھی چیز ہوتی تو صحابہ ضرور کرتے کیونکہ وہ جان فدا کرنے والے تھے، پرواۃ شمع رسالت تھے، وہ اس پر ضرور عمل کرتے لیکن شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے کہ اسراف و فضول خرچی مت کرو، آگ جلانا اور جگہ جگہ چراغاں کرنا ہندوؤں اور مجوہیوں کا طریقہ ہے۔

بہر حال میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جس مسجد میں رات دن سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، پانچوں نمازوں میں مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ کا ورد ہو رہا ہے تو الحمد للہ ہمارا روزانہ بارہ ربِ بیتِ الاول ہے کیونکہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا

میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی سنتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ تو جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کا روزانہ بارہ ربیع الاول ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت آپ کے نقشِ قدم کی اتباع کرے کیونکہ۔

نقشِ قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

یہ میرا ہی شعر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہماری مسجد یں صحابہ کے طریقے پر آباد ہیں۔ اگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چراغاں نہیں کیا تو الحمد للہ! ہماری مسجد یں بھی صحابہ کرام کی یادگار ہیں۔ خدا کے ان عاشقوں کی نقل کر کے ہمیں کوئی حسرت نہیں، تم کچھ بھی کہتے رہو ہمیں اس پر کوئی ندامت نہیں ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گذار ہیں جس نے ہمیں ان کی اتباع کی توفیق دی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا! ہماری زندگی صحابہ کی سنت کے مطابق ہو جائے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے کامل اتباع کر لیں ہم کم سے کم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہمارا ربیع الاول گذرے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا۔ ہم ان صحابہ کے مطابق ربیع الاول گذارنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک سانس بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھولنا بے وفائی اور اپنے ایمان کا خیاع اور تباہ کاری سمجھتے ہیں۔ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ ہم تو

آنکھوں کو بھی آپ کی سنت کے مطابق استعمال کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی خبردار! نا محروم عورتوں کو مت دیکھنا، نظر کی حفاظت کرو۔ پس کسی امر دیعیٰ بے ڈاڑھی موچھ کے لڑکوں کو دیکھنا یا کسی کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کو دیکھنا یا اخبارات میں فلم ایکٹرز کی تصویریں دیکھ دیکھ کر للچانا یہ ربع الاول کا حق ادا ہو رہا ہے؟

ربيع الاول کی حقیقت پانے والے

آنکھوں کی سنت یہ ہے کہ جن چیزوں کو سر و رام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچالیں جس نے یہ کر لیا بنی کی سنت اس نے ادا کر دی، ربيع الاول کی حقیقت اس نے پالی، جس نے اپنے کان کو گانا سننے سے بچالیا اس نے ربيع الاول کی حقیقت پالی، جس نے اپنی زبان کو گناہ سے بچایا، جس نے اپنی شرمنگاہ کو گناہوں سے بچایا اور اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا، اللہ کے غضب و قهر کے اعمال سے بچایا اس کو ہر وقت ربيع الاول کی حقیقت حاصل ہے۔ روزانہ درود شریف پڑھئے، ہر وقت دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھیے۔ سبحان اللہ! کسی وقت بھی ہمارا ربيع الاول ہم سے الگ نہیں۔

رسالت کا اصل مقصد تو حیدر ہے

سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو! اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعا آسمان کے اوپر نہیں جائے گی، لیکن آپ نے توحید کی حفاظت کے لیے اُس درخت کو کٹوادیا جس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کا سہارا لے کر صحابہ کو جہاد کے لیے بیعت کیا تھا، بعض لوگ برکت کے لیے اس درخت کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو یہی ہے کہ لوگ اس درخت کو اس لیے مبارک سمجھ کر دعا کر رہے

ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت سے پیٹھ کا سہارا لگا کر صحابہ سے بیعت لی تھی لیکن کل اس درخت کو سجدے شروع ہو جائیں گے اور خدا کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا، ان کی تو حید کی ہمت تھی کہ ایسے مبارک درخت کو کاٹ دیا تا کہ امت کا ایمان ضائع نہ ہو اور تو حید جو مقصد ہے رسالت کا اس کونقصان نہ پہنچ۔ نبی کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو غیر اللہ سے، باطل خداوں سے کاٹ کر اللہ سے جوڑ دے۔ نعوذ باللہ نبی اپنی پوجا کے لیے نہیں آتا۔ پیغمبر کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے پوچھیں۔ آپ نے منع فرمایا کہ خبردار! میری قبر کو عبادت گاہ مبت بنانا۔

آج کل کے لوگ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فتویٰ لگادیں کہ نعوذ باللہ وہ بھی اولیاء اللہ کے قائل نہیں تھے اور یہاں یہ بات بتا دوں کہ ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ ہم پر بہتان باندھتے ہیں، قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ہمارے بزرگ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں۔ ہم ہرگز ان لوگوں میں نہیں ہیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم اولیاء اللہ کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہم خلافِ سنت باقتوں کو منع کرتے ہیں تو جو لوگ خلافِ سنت کاموں میں مبتلا ہیں وہ ہمیں اپنے کباب میں ہڈی سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے حلومے مانڈے کے لیے ہمیں بدنام کیا ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔

حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نادانی سے انگریزوں کی چالوں کی وجہ سے ہم کو اولیاء اللہ کا مخالف کہتے ہیں، قیامت کے دن ہم کو بدنام کرنے کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ان لوگوں کو ہم کیا جائیں جو ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک، سروِ عالم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور صحابہ کے اعمال جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ سن لیجئے کہ ہم اولیاء اللہ کی جو تیوں کی خاک کے ذریت کو بادشاہوں کے تاجوں کے متیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو انہوں نے اپنے شاگردِ خاص مولانا عبداللہ شجاع آبادی سے اور دوسرے شاگردوں سے فرمایا تھا جب ان کی بخاری شریف ختم ہوئی تھی کہ مولویو! بخاری شریف ختم ہو گئی لیکن بخاری شریف کی روح جب حاصل ہو گئی جب کچھ دن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ کے لہذا اب جاؤ! اور کچھ دن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ، کچھ دن خدا کے عاشقوں کی محبت میں رہ لوتب پتہ چلے گا کہ بخاری شریف کیا چیز ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا مزہ تب ہے جب پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو اور نسبت سے کیا مراد ہے؟ ولی اللہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق حاصل ہو۔

خدا کے سوا کسی کو علم غیب نہیں

یہاں پر ایک بات یاد آئی، قرآن شریف میں ہے کہ ھدھد غالب تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو جمع کر کے پوچھا کہ ھدھد کہاں ہے؟ اگر کسی خاص مقصد کے لیے غالب نہیں ہوا تو آج میں اس کو ذبح کر دوں گا، اتنے میں ھدھد حاضر ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ھدھد! تو کہاں گیا تھا؟ تو اس نے کہاً حَطَّتْ بِمَا لَمْ تُحَظِّ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبِّا بِنَبَاءٍ يَقِيْنٍ میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ اب بتائیے! نبی کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا ہدھد بھی گمراہ نکلا لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ﴾

علمِ غیب صرف اللہ کو ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہارگم ہو گیا۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاش کرو۔ اس جگہ پانی نہیں تھا تو تیکم کر کے نماز پڑھنے کی آیت نازل ہوئی۔ جب قافلہ تیکم کر کے نماز پڑھ چکا اور آگے روانہ ہوا تو اونٹ اٹھا جس کے نیچے ہار چھپا ہوا تھا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب ہوتا تو ہار کا بھی علم ہوتا اور آپ بتا دیتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے۔ کیا نبی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے اور صحابہ بے چین ہوں، پریشان ہوں اور وہ نہ بتائے؟

اولیاء اللہ سے برآہ راست مانگنا شرک ہے

لیکن افسوس ہے ان پر کہ جب تک ان کو شرک کی چنی نہ مل جائے اس وقت تک ان کو مزہ ہی نہیں آتا، لاکھ حدیثیں سناد و مگر ان کو مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر یہ سناد تجھے کہ شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گیارہویں شریف کی بریانی کی ایک ہڈی کو اے گیا اور وہ اس کی گرفت سے چھوٹ کر قبرستان میں گرگئی تو گیارہویں شریف کی بریانی کی ہڈی کی برکت سے سب قبرستان والے بخش دیئے گئے۔ آہ! ایسی واهیات باقتوں سے ان کو بڑا مزہ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کے بیان میں ان کو مزہ نہیں آتا، پیروں کو خدا سے بڑھاتے ہیں۔

خدا فرمा چکا قرآن کے اندر

میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر

وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے

جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے

اولیاء اللہ کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن ان سے براہ راست مانگنا شرک ہے، کسی قبر سے کہنا کہ ہمیں بچپن دے دو، ہماری روزی نہیں ہے ہمیں رزق دے دو، یہ بالکل کفر ہے، ایسا شخص کافر ہو کر جہنم میں جائے گا لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ! اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں، اپنے اولیاء کے صدقے میں اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیجیے۔ بتا دیا کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ جائز ہے یعنی ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائز ہے براہ راست انبیاء و اولیاء کی قبروں سے مانگنا شرک ہے۔

بدعت کی خرافات

خیر یہ چند باتیں کہہ دیں تا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مسجد اشرف میں چراغاں کیوں نہیں ہوا۔ شکر ادا کرو کہ صحابہ کے مطابق ہمارا ربیع الاول گذرा ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مسجد بنوی میں چراغاں نہیں کیا تو آج الحمد للہ ہماری مسجد میں بھی چراغاں نہیں ہوا۔ الحمد للہ! یہاں سنت کا نور ہے، سنت کا چراغ دل میں جلا، سنتوں پر عمل کرو۔ ایک سنت کا نور سورج چاند سے بڑھ کر ہے۔ جس نے سنت پر عمل کر کے سنت کا نور حاصل کر لیا اس کو ان چراغوں سے، ان بیبوں سے کیا نسبت؟ اس کے دل میں تو سورج اور چاند سے زیادہ نور آگیا کیونکہ سورج اور چاند مخلوق کا نور ہے، اتباع سنت سے خالق کا نور دل میں آتا ہے۔

تسبیحِ مہر و ماہ مبارک تہمیں مگر
دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں

ان کے دل میں اگر روشنی ہوتی تو جماعت سے نمازیں ادا کرتے، ان کے چہروں پر ڈاٹھیاں ہوتیں، گھروں میں تصویریں نہ ہوتیں۔ کیا حضور صلی اللہ

علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے کہ صرف ربع الاول میں امت آپ کی محبت میں شعر پڑھ لے، جلوس نکال لے اور گھوڑے پر بیٹھ جائے۔ بعض علاقوں میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش دکھائی گئی اور آپ کی والدہ کی آواز نکالی گئی کہ نو مہینے پورے ہو گئے، اس کے بعد ایک عورت نے تکلیف میں رونے کی آواز نکالی اور پھر ایک بچہ کی پیدائش دکھائی گئی، وہ بچہ کیس کیس کر رہا ہے اور کہا گیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سوچو! یہ دین کا مذاق اُڑایا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ عشق رسول ہے یا گستاخی ہے؟ ان حماقتوں پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔

میرا مقصد اس مضمون سے یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہماری اس مسجد میں چراغاں نہیں ہو اور صحابہ کے طریقے کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ یہ ڈے منانا، موت و پیدائش کا دن منانا اسلام میں نہیں ہے، یہ یورپ سے آیا ہے، کافروں سے آیا ہے۔ آپ ہمیں ایک مثال بتادیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈے منایا ہو یا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ڈے منایا ہو یا کسی صحابی نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ڈے منایا ہو، صدقیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا ڈے منایا ہو۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ اللہ تعالیٰ عقلِ سلیم عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کو ان کے مقدار اور گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈے مناؤ، خوشی مناؤ، حلوہ ضرور پکاؤ۔ کیا یہ خوشی کا طریقہ ہے؟ خوشی کا طریقہ گناہ چھوڑنا ہے، خوشی کا طریقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے اصلی خوشی۔ کوئی بیٹا ابا کو رات دن حلوہ کھلانے لیکن ابا کی مرضی کے خلاف چلے تو کیا ابا خوش ہوں گے؟ شب براءت میں حلوہ کھالیا اور کہا کہ

صاحب یہ نبی کی سنت ہے کیونکہ احمد کے دامن میں آپ کے دندانِ مبارک شہید ہوئے تھے اور بقول ان کے حضرت اویس قرنی نے اپنے ۳۲ دانت توڑ لیے تھے کہ معلوم نہیں کون سادانت شہید ہوا ہے۔ چلوہم مان ہی لیتے ہیں کہ انہوں نے ۳۲ دانت توڑ دیئے اور پھر ان کی امام نے ان کو حلوجہ کھلایا، اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی اتباع میں ہم شبِ براءت کا حلوجہ کھاتے ہیں لیکن ذرا اس کی حقیقت بھی سن لیجیے کہ جنگِ احد شوال میں ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک شہید ہوئے تھے لیکن حلوجہ شعبان میں دو مہینے ایڈوانس یعنی پیشگوئی کھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب حلوجہ کھانے کی ترکیبیں ہیں اور من گھڑت باتیں بنائی ہیں، پھر حضرت اویس قرنی کی ۳۲ دانت توڑ نے والی سنت تو مشکل تھی کہ پھر کے بیٹے سے دانت توڑ نے پڑتے لہذا وہ چھوڑ دی لیکن نرم حلوجہ سارا نگل گئے، دوستوں میں سے نرم چارہ نگل لو اور مشکل والی چھوڑ دو کیونکہ استادوں سے سنا ہو گا کہ سوالات میں جو آسان سوال ہے اسے حل کرو، مشکل سوال چھوڑ دو اور پھر عبادت کی رات کو شیطان نے کیا کیا کہ حلوجہ ٹھسوکر پیٹ میں بلوہ مجادیا جب زیادہ حلوجہ کھائے گا تو پیٹ میں ریاح کے دباو سے بلوہ مچے گا اور جب کھٹا کھٹ ہوا نکلے گی اور دضو نہیں رہے گا تو عبادت کیسے کرے گا؟ اس لیے شیطان نے کیا چال چلی کہ خوب ٹھسوادیا حلوجہ اور حلوجہ نے مچادیا بلوہ پھر کیسے نظر آئے گا خدا کا جلوہ؟ اللہ تعالیٰ گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے۔

بس دعا کیجئے! اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر اور آپ کی ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینوں میں بھر دے اور بلا استحقاق سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو خواب میں عطا کرے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس کا استحقاق نہیں ہے لیکن آپ

کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں اور آپ کا نبی بھی کریم ہے۔
یا رب تو کریمی و رسولے تو کریم

یا اللہ! تو بھی کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے، دو کریموں کے کرموں میں ہماری
گلشتی ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہم
سب کو خواب میں نصیب فرمادے اور خواب میں زیارت سے بڑھ کر بھی ایک
نعمت ہے اور وہ ہے آپ کی سنت پر عمل کی توفیق اور آپ کی نافرمانی سے بچنا۔
پس اے اللہ! یہ نعمت بھی عطا فرمادے اور اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے ہمارے
سینوں کو بریز فرمادے اور جو لوگ آپ کے فرامین عالیہ کو پاش پاش کر رہے
ہیں اے خدا! ہم سب کو توفیق عطا فرمادے کہ ہم آپ کے فرمان عالیشان کو سر
آنکھوں پر کھکھلا کر اس پر عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اتباع سنت اور صحیح اور حیقیقی ربیع الاول نصیب
فرمائے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اتباع والی نصیب فرمائے اور
جذبہ ایمان اور جذبہ محبت رسول حضرات صحابہ والا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے
جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، جس سے خدا راضی ہے، جن سے راضی ہونے کی
سند اللہ نے قرآن میں نازل فرمادی کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ مُحَمَّدُ اللَّهُ
ہماری یہ مساجد اور ہمارا یہ عمل ان کے طریقے پر ہے جن سے اللہ راضی ہوا ہے۔
صحابہ کے طریقے کے خلاف جو ہیں ان کے لیے رضا مندی کی کوئی آیت نازل
نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعاں سے محفوظ فرمائے، آمین۔

وَالْخِرُّ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ



